

ROOTWORDS AL E IMRAN 111-120					
يَضْرِبُوا	ضْرِبَتْ	الْأَذْبَانَ	يُؤَلِّمُكُمْ	أَذَى	يَضْرِبُكُمْ
ض ر ب	ض ر ب	د ب ر	و ل ي	أ ذ ي	ض ر ر
پائے جائیں گے	لازم کی گئی ہے / ماری گئی	پیٹھ	پھیر دیں گے تم سے	خفیف سی تکلیف / اذیت	وہ نقصان پہنچائیں گے تم کو
لَيْسُوا	يَعْتَدُونَ	عَصَا	الْمَسْكَنَةُ	بَاءُوا	يَحْبِلُ
ل ي س	ع د و	ع ص ي	س ك ن	ب و ا	ح ب ل
نہیں ہیں سب	حد سے نکل جاتے تھے	انہوں نے نافرمانی کی	ناداری	مستحق ہوئے / گرفتار ہیں	ساتھ تعلق کے / پناہ کے
بِطَانَةٍ	أَصَابَتْ	صِرٌّ	رَبِيعٍ	يُسَارِعُونَ	آنَاءَ
ب ط ن	ص و ب	ص ر ر	ر و ح	س ر ع	أ ن ي
رازدان / دلی دوست	لگ جائے	تیز / سخت سردی ہو	ایک ہوا	وہ دوڑتے ہیں / جلدی کرتے	وقت / گھڑی
أَفْوَاجِهِمْ	بَدَّتْ	عَبْتُمْ	وَدُّوا	حَبَالًا	يَأْتُونَكُمْ
ف و ہ	ب د و	ع ن ت	و د د	خ ب ل	أ ل و
ان کے مونہوں	ظاہر ہو چکی ہے	تمہیں تکلیف پہنچے	وہ دل سے چاہتے ہیں	خرابی میں	کو تباہی / کمی کرتے تمہاری
يَفْرَحُوا	تَسْتَوْفُّهُمْ	الْعَظِيمِ	الْأَنَامِلِ	عَضُّوا	خَلَّوْا
ف ر ح	س و ا	غ ي ظ	ن م ل	ع ض ض	خ ل و
وہ خوش ہوتے ہیں	تو انہیں بری لگتی ہے	غصہ	انگلیاں	کاٹ کھاتے ہیں	الگ ہوتے ہیں